

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate
1	2	3
	02.06.2015	<p style="text-align: center;"><u>KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,</u> <u>CAMP COURT SWAT</u></p> <p style="text-align: center;">APPEAL NO. 692/2012</p> <p style="text-align: center;">(Masood Shah, Ex-Constable-vs- District Police Officer Shangla at Alpuri, etc).</p> <p style="text-align: center;"><u>JUDGMENT</u></p> <p style="text-align: center;"><u>ABDUL LATIF, MEMBER:</u></p> <p>Appellant with counsel and Mr. Zahid Rehman, H.C alongwith Mr. Anwar-Ul-Haq, GP for the respondents present.</p> <p>2. The instant appeal has been filed by Mr. Masood Shah, Ex-Constable under Section-4 of the Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal Act-1974 against the order dated 14.03.2011 of respondent No.1 whereby the appellant was dismissed from service and order of appellate authority dated 07.05.2012 whereby his departmental appeal was rejected.</p> <p>3. Facts giving rise to the instant appeal are that appellant was Constable in District Shangla. He was involved in FIR No. 161 dated 21.1.2011 under Section-9 b CNSA at Police Station Chakesar. He was proceeded against and was dismissed from service. The appellant preferred representation to the appellate authority which was not accepted, hence the instant service appeal before this Service Tribunal.</p> <p>4. The learned counsel for the appellant argued that respondents violated the provisions of law as the competent court of District and Session Judge/Zilla Qazi acquitted the appellant from the very charges on basis of which he was dismissed by the departmental authorities. That the appellant had not been given the right of fair defense according to the law and the constitution. That proceedings against appellant were conducted in haphazard manner, witnesses examined were under the direct control of the enquiry officer and authority and the proceedings could not stand test of judicial scrutiny. He prayed that the appeal may be accepted and the impugned orders may be set aside. He relied on 2015 PLC 501.</p> <p>5. The learned Government Pleader while resisting the appeal argued</p>

A. F. I.

that proper enquiry as required under the rules was conducted against the appellant. He was associated in the enquiry proceedings as was evident from his reply to the charge sheet where he denied the charge. He was served with final show cause notice by allowing full opportunity of defense. He prayed that the appeal being devoid of merits may be dismissed.

6. Arguments of the counsel for the parties heard and case file perused with their assistance.

7. From perusal of record it transpired that appellant was not provided with fair opportunity of defense. He was not given personal hearing before imposition of major punishment of dismissal from service nor was his departmental appeal rejected through a speaking order which is bad in the eyes of law. The Tribunal deems it appropriate that in order to meet the ends of justice the official may be proceeded against afresh strictly in accordance with law. The impugned orders are therefore set aside, the appellant is reinstated in service for the purpose of *de-novo* enquiry, question of back benefits will be decided subject to outcome of the fresh enquiry which shall be done in a period of one month after receipt of the instant judgment. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record.


ANNOUNCED
02.06.2015


(MUHAMMAD AZIM KHAN AFRIDI)
MEMBER


(ABDUL LATIF)
MEMBER


14.10.2014

Appellant with counsel (Mr. Jmdadullah, Advocate) and Mr. Muhammad Zubair, Sr. GP for the respondents present. Arguments could not be heard due to non-availability of representative of the respondents and incomplete bench. To come up for arguments at camp court Swat on 06.01.2015.


Chairman
Camp Court Swat

6-1-15-

counsel for the appellant and Sr. GP for the respondents present. The Tribunal is incomplete. To come up for argument at camp court Swat on 07-4-2015.



Rander.

7.4.2015

Counsel for the appellant and Mr. Muhammad Ilyas, Inspector for respondents alongwith Mr. Muhammad Zubair, Sr. GP present. Arguments could not be heard due to non-availability of D.B. To come up for final hearing before D.B on 2.6.15 at camp court Swat.



Chairman
Camp Court Swat

07.01.2014 Counsel for the appellant (Mr. Imdadullah, Advocate) and Mr. Muhammad Zubair, Sr. GP for the respondents present. Arguments could not be heard due to pre-occupation of learned Senior Counsel (Mr. Aziz-ur-Rehman, Advocate) in 'Darul Qaza' Swat and incomplete bench. To come up for arguments at camp court Swat on 8.4.2014.


Chairman
Camp Court Swat


8.4.2014

Appellant with counsel (Mr. Imdadullah, Advocate) and Mr. Muhammad Zubair, Sr. GP for the respondents present. Arguments could not be heard due to strike of the Bar. To come up for arguments at camp court Swat on 8.7.2014.


Chairman
Camp Court Swat


8.7.2014

Appellant in person and Mr. Muhammad Yaqoob Khan, Inspector on behalf of respondents with Mr. Muhammad Zubair, Sr. G.P present. Arguments could not be heard due to non-availability of learned counsel for the appellant and incomplete Bench. To come up for arguments at camp court Swat on 14.10.2014.


Chairman
Camp Court Swat

02.4.2013


Appellant with counsel (Mr. Imdadullah, Adv. and Mr. Muhammad Ilyas, S.I (legal) for respondents with Mr. Anwar-ul-Haq, G.P present. Arguments could be heard due to pre-occupation of senior counsel (Mr. Aziz-ur-Rehman, Advocate) and incomplete bench. To come up for arguments at camp court Swat on 2.7.2013.



Chairman
Camp Court Swat


2.7.2013

Appellant with counsel (Mr. Imdadullah, Adv.) and Mr. Muhammad Zubair, Sr. G.P for the respondents present. Arguments could not be heard due to incomplete Bench owing to the promulgation of KPK Ordinance No. II of 2013. To come up for arguments at camp court Swat on 8.10.2013.








Chairman
Camp Court Swat

Appellant with counsel (Mr. Imdadullah, Adv.) and Mr. Muhammad Zubair, Sr. G.P for the respondents present. Arguments could not be heard due to incomplete Bench and pre-occupation of learned counsel for the appellant (Mr. Aziz-ur-Rehman, Advocate) in Darul Qaza Swat. To come up for arguments at camp court Swat on 7.1.2014.



Chairman
Camp Court Swat






592/12

Serial No. of Order or Proceedings 1	Date of Order or Proceedings 2	Order or other Proceedings with Signature of Judge or Magistrate and that of parties or counsel where necessary 3
5.	01.10.2012	<p>Appellant with counsel and Mr. Muhammad Ilyas, S.I (legal) for respondents with Mr. Arshad Alam, AGP present. Written reply received, copy whereof is handed over to the appellant for rejoinder at camp court Swat on 5.11.2012.</p> <p> Member</p> <p> Member Camp Court Swat</p>
	5.11.2012	<p>Appellant with counsel and Mr. Muhammad Ilyas, S.I (legal) for respondents with Mian Amir Qadir, Govt. Pleader present. Rejoinder received, copy whereof is handed over to the learned Govt. Pleader for arguments at camp court Swat on 08.01.2013.</p> <p> Member</p> <p> Member Camp Court Swat</p>
	08.01.2013	<p>Appellant with counsel (Mr. Jadaullah, Adv.) and Mian Amir Qadir, G.P for the respondents present. Arguments could not be heard due to pre-occupation of learned senior counsel (Mr. Aziz-ur-Rehman, Advocate) in the Peshawar High Court, Peshawar. To come up for arguments at camp court Swat on 2.4.2013.</p> <p> Chairman Camp Court Swat</p>

Serial No. of Order or Proceedings	Date of Order or Proceedings	Order or other Proceedings with Signature of Judge or Magistrate and that of parties or counsel where necessary
1	2	3

PAKISTAN SECURITY PRINTING CORPORATION

*Appellant deposited
Process fee & Security
Rs. 180/- Bank Receipt
attached with file.*

3.	6.8.2012	<p>10 days. Thereafter, notices be issued to the respondents for written reply/comments at camp court Swat on 6.8.2012.</p> <p style="text-align: right;"> Member Camp Court Swat</p>
4.	3.9.2012	<p>Counsel for the appellant and Mr. Arshad Alam, AGP for respondents present. To come up for written reply/comments at camp court Swat on 3.9.2012.</p> <p style="text-align: center;">  Member  Chairman Camp Court Swat </p> <p>Appellant with counsel (Mr. Imdadullah, Advocate) and Mr. Arshad Alam, AGP for the respondents present. Neither representative of the respondents is present nor written reply has been filed on behalf of the respondents. The learned AGP is directed to positively establish contact with the respondents for written reply/comments at camp court Swat on 01.10.2012.</p> <p style="text-align: center;">  Member  Chairman Camp Court Swat </p>

FORM "A"

FORM OF ORDER SHEET

Court of.....

Case No. 692 of 2012

Serial No. of Order or Proceedings 1	Date of Order or Proceedings 2	Order or other Proceedings with Signature of Judge or Magistrate and that of parties or counsel where necessary 3
1-	25/06/2012	<p>The appeal of Mr. Masood Shah presented today by Mr. Aziz-ur-Rehman Adv; may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for preliminary hearing.</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> REGISTRAR</p>
2e	27-6-12	<p>This case is entrusted to <u>Toorning</u> Bench <u>Swat</u> for preliminary hearing to be put up there on <u>02-07-2012</u>.</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> CHAIRMAN</p>
3.	2.7.2012	<p>Counsel for the appellant present and heard. The learned counsel for the appellant argued that the appellant has not been treated in accordance with law; that the law mentioned in the impugned order (is non-existence as there is no statute in the field with the name of RSO (Repeal Act) 2011; that no charge sheet and statement of allegations has been issued to the appellant and that no proper procedure was adopted before the impugned order. The learned counsel further argued that the appellant has been acquitted of the charge on the basis of which he was dismissed from service. The points raised need consideration. The appeal is admitted to regular hearing. Process fee & security be deposited within</p>

BEFORE THE KHYBER PUKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,
PESHAWAR

Service Appeal No. 692 of 2012

Masood Shah Ex- Constable No. 693 of Shangla District R/o Chakesar,
District Shangla.

...Appellant

VERSUS


District Police Officer Shangla at Alpuri.

...Respondents

INDEX

S #	Description of documents	Annexure	Pages
1.	Memo of Appeal	1-3
2.	Copy of the order	A	4
3.	Copy of the appeal	B	5-8
4.	Copy of the Appellate Order	C	9
5.	Copy of the Court Decision	D	10-16
6.	Wakalat Nama	17

Appellant Through


Aziz-ur-Rahman

Advocate Swat

Office: Khan Plaza Gulshone Chowk,

Mingora Swat, Cell 0300 907 0671

(4)

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR**

Service Appeal No. 692 of 2012

Masaoood Shah Ex- Constable No. 693 of Shangla
District R/o Chakesar, District Shangla.

...Appellant

VERSUS

1. District Police Officer Shangla at Alpuri.
2. Deputy Inspector General of Police Malakand Region, at Saidu Sharif District Swat.
3. Provincial Police Officer Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

...Respondents

Appeal under section 4 of the Khyber Pakhtunkhwa Service tribunal act 1974 against the original order No. 43 dated 14-03-2011 of respondent No. 1 whereby the appellant was dismissed from service and further appeal against the order of the appellate authority bearing No. 2821 dated 07-05-2012, communicated on 25-05-2012 through respondent No. 1 whereby the departmental appeal of the appellant against his dismissal was not accepted. Both the orders of the respondent No. 1 and 2 are illegal, against the facts and liable to be set aside

PRAYER


On acceptance of this appeal the appellant be reinstated into service with all back benefits.



Respectfully Sheweth

1. That the appellant was a regular police constable in district Shangla. He was falsely involved in a criminal case vide FIR No. 161 on 21-12-2011 under section 9 b CNSA at police station Chakesar, on the basis of which the respondent No. 1 initiated disciplinary proceedings against the appellant.
2. That in the same charges the appellant was dismissed from service by the respondents. Copy of the order is enclosed as annexure "A". the appellant filed a departmental appeal which was not accepted. Copy of the appeal is annexure "B" and the order there upon as annexure "C".
3. That both the orders impugned are against the law and facts hence liable to set aside on the following grounds.
 - i. That the respondents have violated the provisions of law. The competent court of District and Sessions Judge/Zilla Qazi Shangla vide his detailed judgment in the criminal case on the same charges has already acquitted the appellant vide order enclosed as annexure "D".
 - ii. That the proceedings undertaken by the respondents No. 1 and 2 are based on evidence of the entrusted witnesses subordinate to the inquiry officer and the authority.
 - iii. That the appellant has not been given the right of fair defense.

- iv. That the charges leveled against the appellant have not been proved.
- v. That the proceedings of the respondent No. 1 and 2 are in haphazard manner and cannot stand to the judicial scrutiny.
- vi. That the appellant is innocent and has not committed any offence. He has been dismissed from service due to mala fide on the part of respondent No. 1.
- vii. That the appellant seeks permission to raise more grounds if need be subsequently.

It is therefore, very respectfully prayed that on acceptance of this appeal the appellant be reinstated into service with all back benefits.


Appellant

 Masood Shah


Through Counsels,

 Aziz-ur-Rahman

 Imdad Ullah

Advocates Swat

AFFIDAVIT

It is stated on Oath that all the contents of this appeal are true and correct to the best of my knowledge.

Deponent

 Masood Shah




ORDER

Constable Masood Shah No. 693 while posted to PS Nisar Alam Shaheed Chakisar was found by the local Police in possession of 110 grams of charrs and subsequently case vide FIR No. 161 dated 21.12.2011 u/s 9(B)CNSA has been registered against him in PS Chakisar.

Constable Masood Shah No. 693 was therefore, proceeded against departmentally and hence served with Charge Sheet and Statement of Allegations. Enquiry Committee was duly constituted comprising of Mr. Amanullah Khan, DSP Hqrs. Shangla and Mr. Khan Bahadar Khan, SDPO Alpur to conduct departmental proceedings against him. Therefore the Enquiry Committee in its findings has recommended the defaulter constable for major punishment. He was afterwards served with Final Show Cause Notice. He submitted his reply to the final Show Cause Notice wherein he did not put forward something new in his defence but submitted the same reply which had been submitted by him in the shape of his reply to the Charge Sheet and in the shape of his statement. He did not wish to be heard in person and kept silent.

In the light of recommendations of Enquiry Committee, the undersigned is satisfied that the Constable Masood Shah No. 693 has actually committed the offence registered against him in PS Chakisar, therefore, I, Jehan Zeb Khan District Police Officer, Shangla as a competent authority and in exercise of the powers vested in me under the Khyber Pakhtunkhwa Removal from Service (Special Powers) (Repeal) Act 2011 and Under Police Rules (2011) award Constable Masood Shah No 693 who has not completed Three years service in Police, Major Punishment i.e. Dismissal from Service with immediate effect.

Order announced


District Police Officer,
Shangla

OB NO

43

Dated 14/13 2011

Alleged to True copy
M. A. B. I.

The R.P.O / DIG Malakand division
Khyber Pakhtoon Khwa.

Constable Masood Shah Khan NO 693 R/O
Chakesar Tehsil Almurai district Shangla.
(Appellant)

Departmental appeal against the
order of DPO Shangla dated 14.3.012
where by the appellant is removed
from the service.

Sir, The appellant submits as under

- (1) That the appellant was appointed as
police constable on 1.1.2010 after all
the procedural formalities being observed.
- (2) That the appellant was properly trained
and was deputed as a constable in
police station Chakesar.
- (3) That a cousin of appellant namely
Shah Faisal a journalist started a
campaign against the drug dealers
in district Shangla in general and in
Chakesar in particular.
- (4) That the said Shah Faisal in the above
mentioned campaign levelled some
serious allegations against the
Shangla police, and DPO Shangla
and published statements against

DPD Shaufla in various² news papers. More (6)
over, ~~the~~ he met frequently police high
ups including your good self in connection
of charges levelled against Shaufla
police.

5) That the DPD Shaufla instructed the SHO
Chakrasai to serve a legal notice upon
the said Shah Faisal, but even the
notice ^{being} served upon him, ^{they} could not
succeed to stop him from making complaints
and publishing statements against Shaufla
police.

6) That in retaliation the appellant being
the cause of Shah Faisal was roped
and some narcotics recovery was planted
against the appellant and was consequently
removed from service.

7) That the above mentioned case is still
pending adjudication before the court of
Session judge Zilla Qazi where no
order is still passed.

8) That the order and ~~the~~ enquiry against
the appellant resulted in termination of
the appellant is illegal based on malafide
against facts and law hence liable to
be set a side on the following grounds

- I that appellant is terminated with out lawful authority on account of personal grudge
- II that the order passed by the DPO is based on malafide and on account of personal vendetta, a false frivolous case is fabricated against the appellant
- III that the enquiry conducted by the officers were not impartial, and astonishingly they declared the appellant guilty, while the decision of the court is still awaited.
- IV that the law presumes every person innocent until proved guilty, but the enquiry committee has presumed the appellant guilty on the instance of DPO Shauqir which is illegal and unconstitutional.
- V that the constitution of Pakistan guarantee the right of the citizen to the extent that they shall be tried fairly and justly by the competent forum
- VI that the appellant without being convicted is declared guilty which is unlawful hence the order passed by the DPO Shauqir is not tenable.

(vii) That the DPO Sherga has passed the order to terminate the appellant in hurry and mala fide thus the order so passed is not tenable.

8

viii That the appellant belongs to a very respectable family and has never been charged in any criminal case before, thus without being convicted the order of termination is illegal thus the order is liable to be set aside.

Allegation to be true copy
M.A.

It is therefore prayed that the appellant may kindly be declared innocent and may please be reinstated on service by declaring the order of the DPO Sherga as illegal against fact, law and based on mala fide.

verification

It is verified on oath that the facts mentioned in appeal is true to the best of my knowledge and belief.

appellant Narwood Shah Khan
constable NO 693 police station Chakesar

Narwood Shah Khan

dated - 11.4.012.

Copy of memo: No. 2821/E, dated 07.05.2012, by the DPO of Police, Malakand Division, Shangla for information

SUBJECT: DEPARTMENTAL APPEAL FOR RE-EMPLOYMENT OF EX-CONSTABLE MASOOD SHAH NO. 693

Appeal of Ex-Constable Masood Shah No. 693 of Shangla District for re-employment in service was examined by Regional Police Chief and...

OFFICE OF THE DISTRICT POLICE OFFICER, SHANGLA
NO. 3850 /E Dated Alpur the 05/05/2012

Copy of above is sent to Ex-Constable Masood Shah No. 693 through SHO Police Station Nisar Alam Shaheed Chakisar for information.

[Signature]
District Police Officer,
Shangla
15/5/12

مذکورہ بالا
میں سے مسعود شاہ کی
اپیل کے بارے میں
معلومات کے لئے
SHO Chakisar
25-5-12

Accepted to be True

[Signature]

SHO/Chakisar

مذکورہ

بدرالت حباب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج / ضلع قاضی شنگلا تمام الزامی

سرکار تمام مسعود شاہ

CNSA نمبر 2/3 رجسٹرڈ 02.2.12

ملزم مسعود کھن حافر۔ افسر جلیس صاحب جوڈیشل کانسٹبل کے ایسٹم آباد
تشریح لے گئے ہیں۔ ملزم کی ہو کر مسل بہ کاروائی حسب سابق حورف 26.4.12

نوٹ ایڈر
13.4.12

کو پیش ہو۔ دہ۔



26.4.2012

Accused Masood Shah on bail with his counsel & DPP for the state present, heard & record perused.

Vide my detailed judgment of today consist of six pages, duly signed, by extending the benefit of doubt the accused is acquitted, he is on bail, his sureties are discharged from the liabilities of bail bonds.

The case property is confiscated to the state and shall be disposed of but after the expiry period of appeal or revision, accordingly.

File is consigned to record room after completion & compilation.

Announced
26.4.2012

(SHAHID KHAN)
Sessions Judge/ Zilla Qazi,
Shingla


703
Date of Presentation of Application 3-5-12
Date on which copy completed 3-5-12
No of words 7P
Urgent fee Nil
Name of Applicant Hazrat younas
Signature Cyls
Copying No. FEB. 11
Date of Delivery 3-5-12

Certified to be true Copy
Exhibits
District & Sessions Judge
Zilla Qazi, Shingla
at Alpurat
3/2

IN THE COURT OF SHAHID KHAN DISTRICT & SESSIONS JUDGE/ZILLA

QAZI, SHANGLA.

Case No.02/3(CNSA) of 2012



DATE OF INSTITUTION:

02.2.2012.

DATE OF DECISION:

26.4.2012

STATE VS

Maswood Shah s/o Ahmad Shah r/o Chakisar,
Tehsil Alpurai. District Shangla.

FIR No.161 dated 21.12.2011 u/s 9-B, CNSA PS Chakisar, District Shangla.

JUDGMENT:

Accused Maswood Shah is facing trial charged u/s 9-B, CNSA, FIR No.161, dated 21.12.2011, PS Chakisar, District Shangla.

The case of prosecution as reflected in the Murasla Ex.PA/1, incorporated into FIR Ex.PA, is that in pursuant to spy information, ASI Amjad Alam. Khan with other contingents, were present at the Naka Bandi point, Police Check Post Shalmany, a motorcar No.25/DRA, on its way from Karora, was signaled to stop, on query the driver disclosed his name as Maswood Shah, being suspected, he was searched, it lead to the recovery of 110 grams contrabands as Chars. Other passengers were also deboarded & searched but no recovery was affected. The event was reduced into in writing in the shape of Murasila & was sent to PS for registration of case.

ATTESTED

Examiner
Sessions Court Shangla


318/2

26/4/12

5

12

The charas was taken into possession through recovery memo Ex.PW-2/2, in the presence of its marginal witnesses and a sample of 05 grams was separated for its analysis. The accused was arrested & card of arrest Ex.PW-5/1 was drafted.



After registration of the FIR, SI Mohamamd Wali Shah Khan was deputed as investigation officer. He inspected the spot & prepared the recovery plan Ex.PW-4/2 with all its footnotes & sketches at the instant & pointation of ASI Amjad Alam Khan. The accused being a police constable, the I.O informed his high-ups through memo Ex.PW5/2 for departmental proceedings. He sent up the sample for chemical analysis through docket order Ex.PW-4/4 and obtained FSL report Ex.PK in positive and placed on file. After recording statements of PWs u/s 161 Cr.P.C & completion of the investigation, he delivered the file to SHO for onward transmission.

The accused is on bail, he was called, copies u/s 265 C Cr.P.C were delivered, in response to formal charge, he pleaded no guilty & claimed trial.

26/4/12

In order to establish its version, the prosecution placed reliance on the statements of five PWs. The summarized prosecution's evidence is as following:

PW-1 Waheedullah Khan SI, is the SHO, he on completion of the investigation, sent up the matter for trial. He verified his signature on the Challan as correct.

PW-2 Sahib Zaman, is the marginal witness to the recovery memo Ex.PW-2/1, he on oath testified the recovery proceedings & his signature thereon as correct.

ATTESTED
Examination
Sessions Court Sarghla

6

13

PW-3 Sayeedullah is also marginal witness to the recovery memo Ex.PW-2/1, through which the contrabands as Chars weighing 110 grams was taken into possession by the local police in his presence, he verified the recovery proceedings and his signature there of as correct.



PW-4 Mohammad Wali Shah Khan, SI is the investigation officer, he verified & testified the investigation proceedings as well as his signatures on the various documents as correct. He also verified the signature of ASHO Itbar Khan on the FIR Ex.PA as correct. On the completion of the investigation, he delivered the file to SHO for onward transmission.

PW-5, Amjad Alam Khan ASI, reiterated the contents of Murasila Ex.PA/1 and testified on oath the recovery of contrabands as Chars, arrest of the accused and drafting of the recovery memo Ex.PW-2/1. He testified on oath his signatures to the various documents as correct.

26/4/12


On completion of the prosecution evidence, the accused recorded his statement u/s 342 Cr.P.C. He place reliance on the evidence so recorded & need not either to record his statement on oath or to produce further defence.

DPP for the state & Mr. Fayyaz Ahmad Chakisari Advocate, learned defense counsel have been heard & record perused.

Learned prosecutor argued that the accused, facing trial has been caught red-handed and considerable quantity of narcotics as chars has been recovered from his immediate

ATTESTED
Examiner
Sessions Court Shangla
3/5/12

possession. He added that the circumstantial evidence in the shape of positive analysis report coupled with the testimony of the witnesses in whose presence the recovery was effected, do support & substantiate the case of the prosecution. He stressed that the accused is a police official, he misuse his office & brought bad name to the institution for his vesting interest, as such, deserves exemplary punishment.



Learned defense counsel argued that the accused facing trial has been falsely implicated in a concocted case by his high-ups to settle the score with him. He is of the mind that to ignore the services of the police officials on duty, an officer of their own choice was deputed so as to proceed as per directions & desires of the high-ups and to involve the accused in a false & fabricated case. He referred to the contradiction in the statements of PWs and submitted that the accused deserves acquittal as a matter of right.


B. S. S.
26/4/12

In view of the submissions at the bar & record made available, it is floating fact on the surface of the record that the Naka Bandi point where arrest of the accused facing trial & recovery of contraband has been procured, is a general Check Post, Shalmanay. It is supervise, manage & control by a sub inspector having sufficient number of other police officials. It is mystery that despite of the duty officers on the Naka Bandi Point, the SHO of the Police Station, depute & direct an officer below the rank of the available officer on the Naka Bandi Point, to procure the arrest & recovery proceedings in question. No good reasons in this respect could have been presented by the prosecution.

ATTESTED

Examined
Sessions Court Shanganai

It is transparent from the record that apart from the accused facing trial, three other persons were on board in the vehicle at the time of the search proceedings at the Naka Bandi point and one of them, Sahib Zaman, was associated as witness to the recovery proceedings. Needless to highlight, he has totally smashed the recovery proceedings and has categorically stated that it is a false & concocted case. I am conscious of the fact that being traveling in the same vehicle, obliged concessions so given in his examination in cross, can be natural. But it is hard fact that none other than the persons, members of the deputed police party, have been cited as witnesses to the recovery proceedings and even the police officials of the Shalmany Check Post have been ignored to associate them to the recovery proceedings despite of the fact that their presence at the relevant time on the spot was no way less than natural.



Perusal of the statements of Sahib Zaman, PW-2, Sayeedullah PW-3, Mohmmad Wali Shah PW-4 & Amjad Alam as PW-5 would reveal that they have described the stuffs so recovered as consist of two pieces but on it was found as six pieces when de-sealed at the bar, during the trial.

26/9/12

I do agree that FSL report Ex.PK does verify & support the version of the prosecution but it is transparent from the record that the occurrence took place on 21.12.2011, whereas the sample so drawn was received by the FSL on 30.12.2011 and no plausible excuse has been floated for delay in transmitting the sample to the FSL for its analysis.


ATTESTED
 Examiner
 Sessions Court Shalmy
 3/1/12

In view of the above, it is observed that the case of the prosecution is full of doubts. There is no authentic and reliable evidence which could be used against the accused for his

26/9/12

15

conviction: By extending the benefit of doubt, I record the acquittal of the accused, he is on bail, his sureties are discharged from the liabilities of bail bonds.



Case property is confiscated to the state which shall be disposed of but after the expiry period of appeal or revision, accordingly

File is consigned to record room after completion & compilation.

Announced
26.04.2012

(SHAHID KHAN)
Sessions Judge/ Zilla Qazi
Shangla

Certificate:

Certified that the Judgment is consist of six pages, each page has been checked, rectified & signed. It correctly bears my signature & seal.

708
Date of Presentation of Application..... 3-5-12
Date on which copy completed..... 3-5-12
No of words 7P
Urgent fee Nil
Name of copyist Hazrat yammas
Signature Qus
Copying fee F.V.L.C. at Lant
Date of Delivery..... 3-5-12

(SHAHID KHAN)
Sessions Judge/ Zilla Qazi
Shangla

Certified to be true Copy
Examined
District & Sessions Judge
Zilla Qazi, Shangla
at Alpural
3 / 12

بعدالت صہبہ سرور کا سرٹیفکیٹ

قیمت ایک روپیہ		کورٹ فیس
----------------	--	----------

مورخہ 24 جون 2012ء منجانب امیر امیر

مقدمہ منصور شاہ خان بنام DICI

دعویٰ سرور کا ایسے

باعث تحریر آنکہ

جرم سزا

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی وکل کاروائی
متعلقہ آن مقام لکھنؤ در محلہ عنبر نیر الرحمن مار مار لکھنؤ در محلہ لکھنؤ
مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کامل
اختیاط ہوگا۔ نیز وکیل صاحب کو راضی نامہ و تقرر ثالث و فیصلہ پر حلف دینے جواب
دی اور اقبال دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق زراس پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا نیز بصورت
پیروی یا ڈگری ایک طرف یا اپیل کی برآمد ہوگی اور منسوخ ڈائر کرنے اپیل نگرانی و
نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا۔ بصورت ضرورت مذکور کے نسل یا جزوی
کاروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنی ہمراہ یا اپنی بجائے تقرر کا اختیار ہوگا۔
اور صاحب مقرر شدہ کو بھی جملہ مذکورہ بالا اختیار حاصل ہونگے اور اسکا ساختہ
برداشتہ منظور و قبول ہوگا اور دوران مقدمہ میں جو خرچہ و ہر جانہ التوائے مقدمہ کے
سبب سے ہاگا اسکے مستحق وکیل صاحب ہونگے۔ نیز بقایا و خرچہ کی وصولی کرتے
وقت کا بھی اختیار ہوگا اگر کوئی تاریخ پیشی مقام روزہ ہر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل
صاحب پابند نہ ہونگے کی پیروی مقدمہ مذکور لہذا وکالت نامہ لکھ دیا ک سند ہے

منصور شاہ خان

المرقوم 24 ماہ جون 2012ء

العبد گواہ شدہ العبد

بمقام لکھنؤ ضلع سندھ کے لئے منظور ہے

Handwritten signatures and marks at the bottom of the document.

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHAWA SERVICE TRIBUNAL
PESHANWAR.

SERVICE APPEAL No. 692 of 2012
Masood shah Ex-constable No. 693 of Shangla.
District r/o Chakesir, District Shangla.

(Appellant)

VERSUS

1. District Police officer, Shangla at Alpuri.
2. Deputy inspector general of police, Malakand region Saidu Sharif swat.
3. Provincial police officer, Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.

(Respondent)

Reply on behalf of Respondents.

PRELIMINARY OBJECTIONS.

- (I) The appellant has got no cause of action /locus standi to file instant appeal.
- (II) The appellant has not come to this honorable service tribunal with clean hand.
- (III) The appeal is time barred and also barred by law.
- (IV) This honorable tribunal has got lack of jurisdiction to entertain this appeal because the appellant was removed from service under police rules 12-21 (Discharge of inefficient) a police constable who is found unlikely to prove an efficient police officer may be discharged by the superintendent at any time with in three years of enrolment. There shall be no appeal against an order of discharged under this rule.
- (V) That the appeal is bad in its present form hence not maintainable, liable to be dismissed.

REPLY ON FACTS.

1. Para No. 01 is correct up to the extent that the appellant was a regular constable. However he was involved in criminal case vide FIR No 61 on 21/12/2012 u/s 9(B)CNSA at police station chakasir therefore a proper disciplinary proceeding in accordance with law initiated against him.
2. Para No. 02 is incorrect, proper departmental proceedings were initiated under the relevant law against the appellant. Resultantly being member of disciplined force he was found guilty of serious breach of discipline and miss conduct owing to his involvement in narcotic related criminal case therefore major punishment i-e dismissal from service was awarded to him further more departmental appeals were not accepted.
3. Both the order are strictly in accordance with law and facts hence not liable to be set aside. The appellant was found in professional misconduct.

GROUNDS

- i. That the respondents have not violated the provisions of any law. The competent Court of District & Session Judge/ Zilla Qazi, Shangla has acquitted the appellant only on technical ground and benefit of doubt was extended to appellant. It is pertinent to mention that the accused has not been awarded punishment by the court concerned but his acquittal does not amount to his innocence in the episode beyond any iota of doubt.
- ii. That the proceedings which have been undertaken by respondent No.01 and 02 are based on cogent evidence of the impartial witnesses, their statements are enclosed as annexure "A" to "F".
- iii. The appellant has been given the right of fair defense but he was failed to produce any substantial material or cogent evidence in his defense.
- iv. The charges leveled against the appellant have been proved but only the benefit of doubt has been extended to the appellant and he was acquitted by the court concerned.
- v. That the proceedings of the respondent No 01 and 02 are purely according to law and Service Rules. The allegations leveled against the appellant were explained to him and charge sheet was framed and Final Show Cause Notice was given to appellant, resultantly he was removed from service under the KPK Removal from Service Special Powers Repeal Act 2011. *(Charge sheet & other documents are attached)*
- vi. Incorrect the appellant is not innocent he was involved in criminal case therefore he has been dismissed from service to made him example for other police officials as police is a discipline force and is meant to maintain Law & Order and eradicate social evils. If violators of law in police uniform are not dealt with iron hand, it will entice other personnel to indulge in unlawful activities. Thus there is no mala fide on part of respondent No. 01.
- vii. Need no comments.

It is therefore, respectfully prayed that on acceptance of this reply the appeal of the appellant may kindly be rejected with huge cost and the appellant may not be reinstated into service.

Najeeb
1. District Police Officer,
Shangla at Alpuri

Asif
2. Deputy Inspector General of Police,
Malakand Region Saidu Sharif, Swat

Wali
3. Provincial Police Officer,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER
PAKHTUNKHWA PESHAWAR

Appeal No. 692/2012

Masud Shah Constable No. 693 Shangla present Chakisar Tehsil Alpuri
District.....(Petitioner)


Versus


1. Provincial Police Officer, KPK Peshawar
2. DIG of Police, Malakand Region Swat
3. District Police Officer and others (Respondents)


POWER OF ATTORNEY

We the following respondents do hereby authorize SI Legal
Muhammad Ilyas of Shangla District Police to appear on our behalf
before the KPK Service Tribunal in the subject Appeal No.
692/2012.

He is also authorized to submit all documents required by KPK Service
Tribunal Peshawar in connection with cited case.


District Police Officer, Shangla
Respondent No. 1


Deputy Inspector General of Police,
Malakand Region, Saidu Sharif, Swat
Respondent No. 2


Provincial Police Officer,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
Respondent No.3

FINAL ORDER IN DISCIPLINE

I, Mr. Jehan Zeb Khan District Police Officer, Shargha as competent authority under the N.W.F.P. (Removal from Service - Special Powers) Ordinance do hereby serve you Read Constable Masood Shah No. 693 as follow.

The following are the conclusions of the inquiry conducted against you on 21.12.2011. You were given opportunity of being heard before the committee on 21.12.2011.

Through the findings, recommendations of the Enquiry Committee, the material on record and other connected papers were considered before the said committee.

I am satisfied that you have committed the following acts/omissions specified in section 3 of the said Ordinance.

It is alleged that you Constable Masood Shah No. 693 while posted as Constable in PS Chakesar was found by the local Police in possession of 111 grams of opium and subsequently case vide FIR No. 161 dated 21.12.2011 (U.S. 0943) CNS, has been registered against you in PS Chakesar. This amounts to indiscipline and misconduct on your part rendering you liable to be proceeded against under the Removal from Service (Special Power) (Recusal) Act 2011.


2. I, Mr. Jehan Zeb Khan District Police Officer, Shargha as competent authority do hereby decide to impose upon you the penalty of Major punishment under section 3 of the said Ordinance.

3. You are, therefore, required to show cause as to why the aforesaid penalty should not be imposed upon you. Also intimate whether you desire to be heard in person.

4. The copy of this order is being served to you through date of its delivery in the court of record. It is hereby intimated that you have no defence to put forward in the matter and you are hereby deemed guilty.

5. The copy of the findings of the inquiry committee is enclosed.

NO 198/ECH/16/22/2011


District Police Officer,
Shargha

FINAL ORDER AND NOTICE

I, Mr. Jehan Zeb Khan District Police Officer, Shargha as competent authority under the N.W.F.P. Removal from Service (Special Powers) Ordinance do hereby serve you Head Constable Masood Shah No. 693 as follow

An inquiry committee was constituted to enquire into the charges against you. The committee has completed its inquiry conducted during the period from 10.12.2011 to 14.12.2011. The committee has submitted its report on 14.12.2011. The committee has recommended that you be removed from service. The committee has also recommended that you be proceeded against under the Removal from Service (Special Powers) Ordinance No. 198 of 2011 dated 31.12.2011.

Through the findings, recommendations of the Inquiry Committee, the material on record and other connected papers submitted in your defence before the said committee

I am satisfied that you have committed the following gross omissions specified in Section 3 of the said Ordinance

It is alleged that you Constable Masood Shah No. 693 while posted as Constable in PS Chakesar was found by the local Police in possession of 110 grams Charas and subsequently case vide FIR No. 161 dated 21.12.2011 (S-090B) C.N.S. has been registered against you in PS Chakesar. This amounts to indiscipline and misconduct on your part rendering you liable to be proceeded against under the Removal from Service (Special Power) Ordinance Art 2011.


I, Mr. Jehan Zeb Khan District Police Officer, Shargha as competent authority under the said Ordinance do hereby impose upon you the penalty of Minor punishment under Section 3 of the said Ordinance

You are, therefore, required to show cause as to why the aforesaid penalty should not be imposed upon you. Also intimate whether you desire to be heard in person.

The copy of this order was received by you on 16/02/2013 of its delivery in the event of change of circumstances, it may be intimated that you have no objection to the said order being served on you by the post in your own right if you

The copy of the findings of the Inquiry Committee is enclosed

NO 198/Estt. 16/02/2013


District Police Officer,
Shargha.

جناب عالی!

بحوالہ مشمولہ چارج شیٹ نمبری 198/E مورخہ 31.12.2011 برخلاف کنسٹیبل مسعود شاہ نمبر 693 تھانہ چکسیر حال پولیس لائن معروض خدمت ہوں کہ۔

کنسٹیبل مسعود شاہ نمبر 693 پر الزام ہے کہ مقامی پولیس تھانہ چکسیر نے کنسٹیبل مذکورہ کے قبضہ نمبر 110 چرس برآمد کر کے برخلاف ملزم کنسٹیبل مقدمہ علت 161 مورخہ 21.12.2011 جرم CNSA (B) 9 تھانہ چکسیر رجسٹر کیا گیا۔

اندریں سلسلہ جناب ضلعی پولیس سربراہ ضلع شانگلہ نے زبردستی پر مشتمل انکوائری کمیٹی تشکیل فرمایا۔ منظر عام پر لانے کی ہدایت کی۔ انکوائری نے ملزم کنسٹیبل مسعود شاہ کے خلاف محکمانہ انکوائری کا آغاز کر کے تھانہ چکسیر SHO وحید اللہ خان، ASI امجد عالم، کنسٹیبلان سعید اللہ نمبر 667، ممتاز علی نمبر 610، شاہی زیب نمبر 825 اور جیانا نمبر 436 کو دفتر زبردستی طلب کر کے تحریری بیانات قلمبند کر کے شامل رپورٹ ہذا ہے۔ بیانات قلمبند شدہ میں SHO وحید اللہ خان نے واضح کیا کہ مجھ کی اطلاع ملنے پر اس نے امجد عالم ASI کو بذریعہ فون ہدایت کی کہ موٹر کار نمبر DRA میں سوار لڑکے شنگ سے چرس خرید کر ہمارے حدود کی طرف آرہے ہیں۔ ASI مذکورہ نے حسب ہدایت SHO مقام ناکہ بندی کر کے حسب ضابطہ کارروائی عمل میں لا کر جامہ تلاشی کے دوران موٹر کار کے ڈرائیور کنسٹیبل مسعود شاہ کے قبضہ چرس برآمد کر کے مراسلہ رپورٹ پر ملزم کنسٹیبل کے خلاف مقدمہ علت 161 مورخہ 21.12.2011 CNSA (B) 9 تھانہ چکسیر درج رجسٹر کیا گیا۔ اس طرح امجد عالم نے FIR رپورٹ کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ مورخہ 21.12.2011 کو مجھ کے اطلاع پر حسب ہدایت SHO صاحب ناکہ بندی کے دوران ملزم مسعود شاہ کے جامہ تلاشی لینے پر 110 گرام وزنی چرس برآمد کر کے گواہان فرد سے بروقت قبضہ ہو کر مراسلہ بغرض مقدمہ تھانہ چکسیر بھجوا دیا گیا۔ جس پر مقدمہ علت 161 مورخہ 21.12.2011 جرم CNSA (B) 9 تھانہ چکسیر رجسٹر کیا گیا۔ اس طرح گواہان فرد کنسٹیبلان سعید اللہ نمبر 667، ممتاز علی نمبر 610، شاہی زیب نمبر 825 اور جیانا 436 نے بھی اپنے بیانات میں وقوع کی تصدیق اور امجد عالم ASI کے بیان کی تائید کی۔

جبکہ کنسٹیبل مسعود شاہ نمبر 963 اپنے بیان میں جرم خود سے انکاری ہے۔ ملزم کنسٹیبل وقوع مقدمہ کو متنازعہ انتقامی تعصب ظاہر کرتا ہے اور مقامی پولیس پر بے بنیاد الزام تراشی کرتا ہے۔ مذکورہ اپنے بیان میں بات سے متنبہ کوشش کرتا ہے۔ جو کہ اس کی غلط فہمی ہے اگر وقوع مقدمہ واقعی مقامی پولیس کا انتقامی تعصب پر مبنی ہے تو اس پولیس یا محکمہ پولیس کی کوئی نیک نامی متوقع تھی؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مقامی پولیس نے اپنے بدنامی کی پرواہ نہ کی۔ کنسٹیبل مسعود شاہ جیسے نااہل پولیس اہلکار کی قلع قمع کرنے کی جرات کی جو کہ قابل داد ہے۔ ملزم کنسٹیبل نے اپنے تحریر کیا ہے کہ مقامی پولیس نے بے جا مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر رات بھر تشدد کیا اگر یہ سچ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے خلاف شکایت کیوں نہیں کی؟ علاوہ ازیں ملزم کنسٹیبل بحوالہ مد 13 روزنامہ 20.12.2011 سے غیر حاضر ہو کر مورخہ 21.12.2011 کو بغیر اجازت کے اپنے ساتھیوں سمیت حدود تھانہ چکسیر سے ہٹا کر

وہ اپنے بیان میں اعتراف کرتا ہے۔ ملزم جیل اپنی میر جاسری اور اپنے سائیون سیت سہ ماہیات نہیں کی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملزم کنشٹیبل کو مقدمے کے ساتھ ضرور تعلق ہے۔

حالات، واقعات اور بعد ملاحظہ بیانات سے زیر دستخطی اس نتیجہ پر پہنچا کہ مورخہ 12/2011 پر حسب ہدایت SHO صاحب تھانہ چکیر امجد عالم ASI نے ناکہ بندی کے دوران ملزم کنشٹیبل کی جیس برآمد کر کے جس پر مقدمہ علت 161 مورخہ 21.12.2011 بمقام CNSA (B) 9 تھانہ چکیر جو کہ اب عدالت میں زیر سماعت ہے۔ مقامی پولیس نے ملزم کنشٹیبل کو غیر حاضری کے دوران مرتکب جرم سے محکمہ پولیس کے ساکھ اور وقار کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔

لہذا انکو آری کمیٹی ملزم کنشٹیبل مسعود شاہ نمبر 693 کو میجر پنشنٹ (Punishment) سفارش کرتا ہے۔
انکو آری رپورٹ مرتب ہو کر گزارش ہے۔

خان بھلا
ایس۔ ڈی
سرکل ایجو

امان اللہ
ڈی ایس پی
ہیڈ کوارٹر شانگلہ

May issue F. S. N or
submit for forensic
order, etc
- EL
03/12

al s.c
03/12

ملالیا
نے

تلی
توئی

رکتی

ن

اور

ن

دینا

اور کھڑے اس کے لہر مجھے بھٹکے گا یاں پلنگار سارے گاؤں میں
 مجھے جکر لگایا۔ اور مختلف قسم کے گاؤں کے لوگوں سے ملنے لوگ
 سردار کے اور باقاعدہ گاؤں کے لوگوں کو اطلاع دی گئی
 کے ہم ساری صفا لوگ سھوڑا کو جس کے الزام میں
 گرفتار کیے۔۔ اور تمام گاؤں کے لوگوں کے سامنے مجھے
 میرے خاندان بدنام اور سہنہ کے کوٹھن کی گئی۔ اور
 لوگوں کی جلوس کی شکل میں مجھے جوڈیل محراب کھڑکی
 عدالت میں لے گیا۔ بازار میں اور عدالت میں بھٹکوں
 کے ساتھ سری کوٹھڑائی گئی۔۔ ان سارے واقعات اور
 عدالت سے میرے خاندان اور والد صاحب کو بے ضرر رکھا گیا۔ حالانکہ
 میرے والد گاؤں کے ایک بھڑے اور بااثر شخصیت ہیں۔ میرے
 ساتھ جو لوگ لے گیا، یہ عام طور پر کسی حلیم کے ساتھ نہیں لے جاتا۔
 لوگس کی یہ عام کارروائی صرف اور صرف ہمارے خاندان کو بدنام کرنا
 اور انتقام سہنی تھی۔

شکا لوگس نے یہ انتقامی کارروائی میرے ساتھ لے لی تھی کہ اس سے ملے
 سے فعل ولد عبدالغور کا جو کہ رشتے میں بھتیجا اور دولہا رشتے
 میں تھا Brother in law ہے۔ صفا لوگس کے خلاف اصرار میں
 بیان دیا گیا کہ صفا لوگس نے کئی کئی گھنٹوں میں جلوس کیا
 اور اس سے ملے گا فعل کی PIC وہاں عدالت کے
 سے کچھ خراج میں بھی ہوئی تھی۔ اور اس سے ملے میں

PIC صفا لوگس اور افران بازار کے خلاف ایک ریلوے
 میں جو ظاہر ہے کہ EP اور بیٹن لوگس اور سر بلڈر جان
 اور بیٹن سرات پر پھیل گئی کھڑکی کھینچ دیا گیا

حکومت صاحب دست لٹ بولس آفر صاحبہ سنالہ

سٹوکار نوٹس

جواب نوٹس نمائندہ

جواب نمائندہ جواب نوٹس ذیل طرح ہے

① بہتر حورم $\frac{12}{11}$ 22 برس تکہ دیگر افراد سماں 10 سال
 ② لبت اللہ ولد ارجمند صاحب زمان ولد خان زمان
 ولد رحمت اللہ سالان حکمر اپنے ول کے دیگر کارگری 25
 اپنے ہی کام کے سلسلے میں لیام سے واپس حکمر اپنے
 جب حکام سٹوکار نوٹس لکھنے تو وہاں ایک نوٹس
 کے علاوہ بقیہ حکمر میں لکھیات ارجمند عالم ASI
 ہماری گاڑی کو چھ لکھیات یا و ہور یہ کہ کر کہ اسے ایک
 کی اطلاع ملدی شروع کی اور گو دیر لکھتے اور سیر
 کو رفتار اس کے ہم نے ارجمند عالم ASI کے جس میں برابر
 الزام لگایا۔ حالانکہ نہ چھوے اور نہ ہی میری گاڑی سے اور نہ
 میرے دیگر ساکھوں سے کسی قسم کی غیر قانونی شے برابر ہوئی
 صاحبی نوٹس نے جب مجھے بلایا غیر قانونی اور غیر اعلیٰ طور پر
 آئی رات تھی اور میرے دیگر ساکھوں کو حوالہ میں میری
 ساری رات ارجمند عالم ASI اور اختیار صاف SI سے جو
 اور میرے ساکھوں پر تہہ کی تم سے جو اس کے خلاف
 184 ص 1 کے تحت بیان رکھا ڈرو۔ اور ان کے خلاف
 لیکن میرے دیگر ساکھی اختیار لکھے۔ اور صبح ہی میرے
 CNISA 93 کے تحت 110 رام میں پریم دیا گیا

اور اسی انکوائری آفران گاؤں حکیم کے حضور میں کاہل بلانا
اور اسی جرم میں میرا والد صاحب انکوائری آفران کے سامنے
حقانی پولیس کی کارروائی پر حاضر ہوئے تھے۔

اپنی وجوہات کی بنا پر حقانی پولیس انتظامیہ کارروائی کے نتیجے میں
پہنچی تھی۔ اور اسی انتظامیہ کارروائی کا نتیجہ بھی بنا ہوا۔
میں اس کا ماتحت اور زیر اثر تھا۔

میں حکیم کی ایک سرکاری اور حنفیہ خاندان سے تعلق رکھتا
ہے۔ منشیات کا عادی اور نہ ہی اس قسم کی سرگرمیوں میں
مشارکت کرتا تھا۔

حوزہ 21/12/11 کو حقانی پولیس نے مجھے حکیم خالوئی، حکیم اعلیٰ اور
بلال احمد لغیر کسی حکیم خالوئی نے کے برائے کے رفقہ بنا کر
اور حقانی پولیس کی تمام کارروائی انتظام پر بھیجی تھی۔
میں خلوص دل اور ایمانداری سے اپنے فرانس میں بھی
اور ہمیشہ ایمان دینا چاہتا تھا۔

میں بے گناہ ہوں میں نے کوئی جرم نہیں کیا اور نہ زور
لگایا۔ مستحق کارڈ نہیں بلکہ میری کارروائی داخل رہے
کرنے کے احکامات صادر فرمائیں۔

حکیم خالوئی

موجودہ نمبر 693

حال حنفیہ پولیس لائن

مقام انورکلی

Attested
[Signature]

Attested

[Signature]

بیانہ آئین کنٹریل مسعود سنگھ نے 1993ء کے دو ایوانوں دربارہ بیان کیا
جو 21¹²/₅ پر میں جمع دیگر اقدار سمیت @ ساحر ولد کا
تھی نعت اللہ ولد ارشد جی صاحب زوالد خان زمان جی کریم اللہ
نے تیار کیا جس کے اپنے والد کے دفتر کا معنی کے میں اپنے جی نام سے
شمارے والیں چلیں رہے تھے۔ جب مقام شکمالو جیک لوہٹ
جیک لوہٹ عمل کے علاوہ تھا ان چکریں میں لجنات الحمد عالم ASI
میری گاڑی کو لے لے جانے کے باوجود یہ کہہ کر اسے ایک دستے
اطلاع سے تلاش شروع کی اور کچھ دیر بعد ہی اور میرے ساتھیوں کو گرفتار
کی ہم سب الحمد عالم ASI نے چریں سراہ کر کے کا الزام لگایا۔ حالانکہ یہ
میری گاڑی سے اور نہ ہی میرے دیگر ساتھیوں سے کسی قسم کی
میرے سرکار سے کوئی پتہ یا کسی نے بلاؤں غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور
کیا۔ وہاں رہے اور میرے دیگر ساتھیوں کو حوالات میں مندر کیا۔ اور میری
اور اعتبار خان نے ان کے چہرے پر تشدد کیا اور میرے ساتھیوں پر تشدد کیا
کے خلاف عدالت میں 164 حق نے وقت بیان کیا اور کرو۔ اور
گو اسی دور۔ میں میرے دوستوں کے ساتھ انکار کر رہے تھے۔ اور جمع
خلاف CNSA، 918 کے تحت 110 ڈرام میں میرے دیا گیا۔ اور میرے
بھی پتھر پھانسی لگا کر سب سے گاؤں میں لے جکر لگایا۔ اور مختلف قسم کے
لوگوں کو صحافی پولیس جنرل کے اور باقاعدہ گاؤں کے لوگوں کے کہ
کم پتہ پتہ شاہ اور کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور تمام گاؤں کے
ساتھ ہی اپنے نام اور پتہ مندر کرنے کی کوشش کی گئی اور
حالیوں کی قسم کے میں خیریت چکیں کی عدالت میں پیش کیا
اور عدالت میں میرے خلاف تمام حوالے دیا گیا۔ ان حوالوں کے
میرے ساتھ ہی ساتھ اپنے والد کو لگاؤں سے پتہ
تاریخ کیا گیا۔

حقابی پولیس کے خلاف اصرار میں بیان دیا تھا کہ حقابی پولیس مستحیات سمیت
 کی ملوث ہے اور اسی سلسلے میں دیگ کی دیگ ملائکہ آرگن ہے اور
 واقعات میں بھی ہوئی تھی۔ اور اسی سلسلے میں دیگ کی حقابی پولیس اور افسر
 لاکے خلاف ایک انکوائری ٹیم جو طاہر شاہ خان SP انوسٹی گیشن ٹوٹیو
 بریلڈ خان SP انوسٹی گیشن سوات سر شامل تھا جس کے ذریعے بھی دیا گیا
 اور اسی انکوائری افران گاؤں جس کے صدر میں گاؤں ملا اور اسی
 ڈیگ میں حیرت والہ حالت نے انکوائری افران کے ساتھ حقابی پولیس کی
 کارکردگی پر اعتراض کیا۔

اس میں وجوہات کی بناء پر حقابی پولیس انتظامی کارروائی پر تلی ہوئی تھی
 اور اسی انتظامی کارروائی کا نشانہ بنے بنایا کیونکہ میں اس کے کا ماتحت
 اور سربراہ تھا جس میں دیگر کے ایک شریف اور صدر خاندان سے تعلق رکھتا ہے
 مستحیات کا عادی ہے اور یہی اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہے
 حرم بالا کو حقابی پولیس نے بے غیر قانونی غیر اضرائی اور بلاوجہ اور بغیر کسی
 کے لئے افسر کے جسٹس گرفتار کیا ہوا۔ حقابی پولیس کی تمام کارروائی انتظامی پر مبنی
 میں حلقوں میں اور افسر افران سے فرالض انجام دیا ہے اور جسٹس تمام گرفتار
 میں نے گناہ بھی کیا ہے اور حرم اور نہ کروں گا

اس میں وجوہات کی بناء پر حقابی پولیس انتظامی کارروائی پر تلی ہوئی تھی
 اور اسی انتظامی کارروائی کا نشانہ بنے بنایا کیونکہ میں اس کے کا ماتحت
 اور سربراہ تھا جس میں دیگر کے ایک شریف اور صدر خاندان سے تعلق رکھتا ہے
 مستحیات کا عادی ہے اور یہی اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہے
 حرم بالا کو حقابی پولیس نے بے غیر قانونی غیر اضرائی اور بلاوجہ اور بغیر کسی
 کے لئے افسر کے جسٹس گرفتار کیا ہوا۔ حقابی پولیس کی تمام کارروائی انتظامی پر مبنی
 میں حلقوں میں اور افسر افران سے فرالض انجام دیا ہے اور جسٹس تمام گرفتار
 میں نے گناہ بھی کیا ہے اور حرم اور نہ کروں گا

CHARGE SHEET

I, Mr. Jehan Zeb Khan, District Police Officer, Shangha, as competent authority hereby charge you Constable Masood Shah No. 693 as follow:

It is alleged that you Constable Masood Shah No. 693 while posted as constable in PS Chakisar was found by the local Police in possession of 112 grams of Charas and subsequently case vide FIR No. 161 dated 21.12.2011 as per NSA No. 129 registered against you in PS, Chakisar. This amounts to misbehaviour and misconduct at your part rendering you liable to be prosecuted under the Removal from Service (Special Powers) (Repeal) Act, 2011.


By reasons of the above, you appear to be guilty of misconduct under section-7 of KPK Removal from Service (Special Powers) (Repeal) Act 2011 and have rendered yourself liable to all or any of the penalties specified in section-7 of the (Repeal) Act, 2011.

2. You are therefore directed to submit your written defence within seven days of the receipt of this Charge Sheet to the Inquiry Officer.

Your written defence, if any, should reach the Inquiry Officer within the specified period, failing which it shall be presumed that you do not desire to put in and in that case exparte proceedings shall be taken against you.

4. Intimate whether you desire to be heard in person.

5. A statement of allegations is enclosed.


A

DISCIPLINARY ACTION


1. Mr. Jehan Zeb Khan, District Police Officer, Shangla is competent authority of the opinion that Constable Masood Shah No. 693 has rendered himself liable to be proceeded against as he committed the following acts/omission with in the meaning of Section-3 of the Khyber Pakhtunkhwa Removal from Service (Special Powers) (Repeal) Act 2011:

STATEMENT OF ALLEGATIONS

It is alleged that he Constable Masood Shah No. 693 while posted as constable in PS Chakisar was found by the local Police in possession of 110 grams of Charas and subsequently case vide FIR No. 161 dated 21.12.2011 u/s 91B/CNSA has been registered against him in PS Chakisar. This amounts to indiscipline and misconduct on his part rendering him liable to be proceeded against under the Removal from Service (Special Powers) (Repeal) Act 2011.

For the purpose of scrutinizing the conduct of said accused with the reference to the above allegation Mr. Amanullah Khan, DSP HQrs and Mr. Khan Bahadar Khan, SDPO/Alpuri are appointed as Enquiry Officers. The Enquiry Officers shall, in accordance with the provisions of the Ordinance, provide reasonable opportunity of hearing to the accused, record its findings and make within 25 days of the receipt of this order, recommendation as to punishment or other appropriate action against the accused.


The accused and a well conversant representative of the department, shall join the proceedings on the date, time and place fixed by the Enquiry Officer.


District Police Officer,
Shangla

OFFICE OF THE DISTRICT POLICE OFFICER, SHANGLA

No. 195 E. Dated Alpuri the 31/12 2011
Copy of above is sent to:

1. Mr. Amanullah Khan, DSP HQrs and Mr. Khan Bahadar Khan, SDPO Alpuri for initiating proceeding against the officer official under the provision of Contained in KPK Removal from Service (Special Powers) (Repeal) Act 2011
2. Constable Masood Shah No 693 with the direction to appear before Enquiry Officer on the date, time and place fixed by the Enquiry Committee, for the purpose of the Enquiry Proceedings.


District Police Officer,
Shangla

بیان ازل وحید اللہ خان 440/145/145

کہ اسی روز چھبڑے جی الیغ دی گزور اردو 25 میں سہ لڑکے
میں اور سنگ سے جس کافی حد تک خرید کر ساقویہ میں آرہی
کے ساتھ کاروائی کے سلسلہ میں کھام سرکل موجود تھا۔ لفظیہ اطلاع
میں نے انجمن مسلم خاں ASI کو فون پر دیکر ہدایت دی
کہ کھام ریکولر نا کر ہزی کریں اور سہ لڑکے میں موجود گناہ یا دہریہ
میں جس برادرگی کی صورت میں کاروائی کریں۔ جو ہم ہدایت
کے مطابق کاروائی کی۔ اور جو پٹرول کے ڈرائیور کے شمع سے جس
برادر کے ان کے خلاف قانونی کاروائی کر کے اندر میں آیا

نمبر 161/161/161
جو منع دلیم سےور شاہ حکم لولیں میں بھرت کٹرین ہے اور ہاں
میں لقیات تھا۔ اور اسی روز قہار سے عنبر حاضر ہوا تھا۔ جو شرابی
اسے کادکٹ ہے۔ انہوں نے ساتھ جو دیگر لڑکے سوار ہے تو دراصل
نکلی ان سے کوئی عنبر قانونی شے برآمد نہیں ہوئی تھی۔ لیکن
لو فر اور اوٹش کے لڑکے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ اس نے اس کو
نورایت ری گزور لڑکوں کو ضبط کرنے کے خاطر تیر دفعہ 107/107
تفتار کریں۔ جو وہ جیہ طالب عدالت ہے۔ مگر ان کے ساتھ ہی خاطر
ڈسپلن فرس ہے اور سےور شاہ لولیں میں پونے اس نے باخبر ام اتھا
میں کئی ایسی میرا بیان ہے

ایک وحید اللہ خان 440/145/145
Attest
18/11/2008
DPOA

Attest
DSP/AG

بیان احمد عام ASI منقہ سے حاصل کیے گئے اور اسے
 SHO نے بذریعہ خون اطلاع دی کہ مجھے جس کے اطلاع دی ہے
 ووٹر کارڈ نمبر 52 میں مشکوک افراد سمیٹے ہیں جو اس کے پتے پر
 قانونی کارروائی عمل میں آ رہی ہے۔ اس میں اطلاع کے پیش نظر میں
 پولیس روانہ نہ کرے گا، پولیس ایک پوسٹ ہوئے وہاں پر تاکہ پتے پر
 خاڑیوں کی تلاش شروع کی۔ اس کے بعد ووٹر کارڈ نمبر کے اکثر افراد
 کے زائے رکواے۔ گھڑی میں موجود افراد کی تلاش شروع۔ ڈرائیو
 مسعود شاہ کی تلاش میں پرائیویٹ کبلی جیب سے پیرس برآمد ہوئی
 جو وزن کرنے پر 10 گرام نکلی۔ پیرس کو سروسٹ خرید بیفنگ کو
 میں گھر کے خرید ہوئے پیرس کرنے کو اچھاں سے تکمیل نہ کر رہی
 علم مسعود شاہ کے خلاف سرحد میں پھانسی ہوئے پیرس
 11/11/11
 13/11/11
 وزیر اعلیٰ کے حکم پر پولیس میں کنسٹیبل کے اور
 پیرس کو ڈیوٹی پر بھیجا گیا وہاں اس وقت غیر جانبدار
 پولیس نے وہاں پیرس نہنگ شام پہنچ کر کو ایسی
 پیرس پھانسی سے پیرس پھانسی ہے

ASI PS Chakras
 03-01-2012

Attested
 DSP/HQ Shikhar

Attested
 DSP/HQ Shikhar

کیشیل

بیان اذعان من عبد اللہ محمد 667 من مملکت پاکستان
 بدو اذعان دریافت بیان کیا کہ۔۔۔ 545 صاحب کا نام صاحب
 ایچ عالم خان اور صاحب کو اظہار دی کہ عورت کا نام
 میں شکوت اور راجہ ہے۔ ایچ عالم خان اور صاحب کے ساتھ
 نام ڈیوٹی پر چلے گئے۔ وہاں دن کو ل چیل پورٹ میں تانہ لگا
 گئی تھی۔ اور گاڑ پور کی ٹرک سے شروع کی گئی۔ اس وقت وہ عورت کا
 بالا آیا۔ اس وقت کو لیا۔ عورت کا عیب ہوا اور تمام کسان
 کی نظر لگی گئی۔ جس میں سے عرفی ڈرائیور مسعود سکا۔
 بنی صاحب سے ایچ عالم خان اور صاحب نے چہرہ سے پرہیز
 کیے جو عورت کو نہا پر 11 اکتوبر تک۔ اور عورت کا ڈرائیور
 مسعود سکا وہ دلدار احمد سکا۔ سکنہ جیکب آباد۔ جو لوگ
 میں ملازم ہے اور تقابلیہ میں انہیں ت ہے۔ اور وہی
 انہوں نے عورت کا کمر ہوا تھا۔ جو سب سے تیار ہوا تھا۔
 اور وہ کابو محمد کی اظہار ہے کہ عورت کو لیا۔ پس کہیں
 بیان ہے

Saeed
 محمد اللہ محمد 667
 من مملکت پاکستان

Attested
 W

Attested
 K
 sepul Alqurani

بیان اذان نیل ممتاز علی ۱۵

بدر اذان در بیانت بیان نیل کہ اسی امور S.H.O صاحب
کہ صورت کا رقم $\frac{25}{DRA}$ میں منگوا اور دیکھیے فوراً

ASO صاحب کے ساتھ ہم ڈیوٹی پر ملے گئے۔ دن کو
نے ٹھانڈیوں کی تلاش شروع کی اسی اثناء میں دوست کا
آیا۔ جب کہ اشارہ دے کر پوچھا گیا۔ پتھر میں سے

عام نساں کی تلاش کی گئی جس میں سے صرف پتھر
ڈرائیور مسعود شاہ کے بنگلے میں سے چھپا ہوا
پتھر ڈرائیور مسعود شاہ ولہر احمد سے ملنے کے

پتھر ڈرائیور مسعود شاہ ولہر احمد سے ملنے کے
پتھر ڈرائیور مسعود شاہ ولہر احمد سے ملنے کے
پتھر ڈرائیور مسعود شاہ ولہر احمد سے ملنے کے

M.A.

مشکیل ممتاز علی رقم ۱۵

Attested

Alfusa

Shauq

بیان اذان شیلنگی کے لئے 25 کروڑ روپے کی رقم کی ضرورت ہے۔
 ممبران دربارت میں سے 25 کروڑ روپے کی رقم کی ضرورت ہے۔
 عالم خان نے وہ رقم کی ضرورت کو تسلیم نہیں کیا۔
 کارٹریم $\frac{25}{DRA}$ میں ملوث افراد کی فہرست ہے۔
 کارٹریم کی رقم کا ٹرنسفر عمل میں لائی جائے۔
 خان ازا صاحب کے ساتھ ہم ڈھرنی میں چلے گئے۔
 عین جوہت میں تاکہ پھر وہاں کی گئی۔
 نمازوں کو شروع کیا۔ اسی وقت سے یہی صورت کار
 آیا جس کو اشارہ دیا اور ایسا کار میں بیٹھے تمام افسران کی
 میں سے محمدی ڈرائیور سے مل کر ان کے پاس سے احمد عالم
 ازا صاحب نے چرب پڑھ لیا جو وقت تک یہ 110
 تھے۔ ان میں سے ڈرائیور گرفتار کیا گیا۔
 مسعود شاہ۔ احمد شاہ۔ گلبرگ جوہت میں
 میں کیفیت شیلنگی اور تقاضا میں نہیں تھے۔
 احمد تقاضا سے غیر کارٹریم تھا۔ اس وقت اس کا
 عود کی طرح غیر کارٹریم تھا۔ اس وقت اس کا

اذکار
 شیلنگی کے لئے 25 کروڑ روپے کی رقم کی ضرورت ہے۔
 3
 Attested
 No. sha. 9/10

Attested
 K. Al
 11/11/2011

بیان کیا ہے اس کا روز 10/10/2010ء کا ہے۔ (مقام: گلبرگ، اسلام آباد)۔

فون (اطلاع) دیا کہ موٹر کار نمبر 25-25 میں ٹیکس کی افیسر نے

DRA

فوری نامہ قید کرنے کا لٹری کارروائی میں لایا گیا اور عالم خان (AS) نے

صراحت سے کہا کہ ڈیوٹی کرنے والے کو سٹاپ کیا گیا ہے اور نامہ قید

کیا گیا اور وہاں سے گاڑیوں کی تلاش کی گئی اور اس کے ساتھ ہی موٹر کار

جس کو اشارہ دیا گیا گاڑی میں بیٹھے تمام افراد کی تلاش کی گئی جس میں سے

صرف گاڑی، ڈرائیور اور عورتوں کے بعض جیب سے دس روپے برآمد ہوئے

جو ورنہ پورے 110 گرام نکلے مگر پورے گاڑی کو گرفتار کیا گیا

ڈرائیور مسعود شاہ ولد امیر شاہ سکنہ گلبرگ جو محمد پورس میں

کینٹ کنٹریل اور تعاقب چلیے گئے جو اسی روز وہاں سے پکڑے گئے اور

اور پکڑے گئے اور تعاقب کیا گیا جو طالبیہ (جس کی اطلاع) نے گرفتار کیا گیا

پورے بیان سے

الف

کنٹریل حیات - نمبر 436

3-012

Attested
Sun
08/10/2010

Attested
08/10/2010

ORDER

Having been involved in case under section 9(B) CNSA of Police Station Nisar Alam Shaheed Chakisar, vide FIR No. 161 dated 21-12-2011 Constable Masood Shah No. 693 Police Station Chakisar here by suspended from service with immediate effect.



District Police Officer,
Shangla

No. 8346 /EC, dated Alpuri the 22 / 12 / 2011

Copy to Station Home Officer, Police Station Nisar Alam Shaheed Chakisar w/r to his application dated 21-12-2011.


District Police Officer,
Shangla

OB NO 168
dated 22.12.2011



KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

No. 994 /ST

Dated 24 / 6 / 2015


To

The DPO,
Shangla at Alpuji.

Subject: - JUDGEMENT.

I am directed to forward herewith certified copy of Judgement dated 2-6-15 passed by this Tribunal on subject appeal for strict compliance.

Encl: As above


REGISTRAR
KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICE TRIBUNAL
PESHAWAR.